



مفت سلسلہ اشاعت نمبر ۳



# ہاتھ

# اٹھا کر دُعا مانگنا



مفتی اعظم پاکستان، مولانا محمد رفیع صاحب، ریسٹریٹ، لاہور

حضرت علامہ محمد رفیع صاحب کی تصانیف

مصنف

مولانا محمد رفیع صاحب، مولانا محمد رفیع صاحب

سہ ماہی نامہ

پبلسنگ ہاؤس (اب الہ آباد)

ناشر

# ہاتھ اٹھا کر دُعاء مانگنا

فیضِ ملت، آفتابِ اہلسنت، مفسرِ المصنفین، مفسرِ اعظم پاکستان

حضرت علامہ ابوالصالح مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

## وجہ تالیف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدلہ و حمدہ و الصلوٰۃ و السلام علی من لانی بعد و علی آلہ و اصحابہ معہ

**اما بعد!** فقیر خیر پور ناتھن شاہ ضلع دادو سندھ حضرت سید علامہ جھٹل شاہ صاحب کے دارالعلوم میں بیٹھا تھا کہ کسی نے کہا کہ ایک قاری سعودیہ سے واپس آ کر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو بدعت کہتا ہے اور دلیل صرف یہی کہ امام الحرمین نہیں مانگتے۔ فقیر نے اس وقت چند کتابوں سے احادیث مبارکہ لکھوا کر قاری کو کھلوا بھیجا کہ دین سعودی نجدی اماموں کے عمل کا نام نہیں دین رسول اللہ ﷺ کے قول و عمل کا نام ہے۔ سعودی اماموں کا نماز کے بعد دعاء نہ مانگنا ان کی بد بختی کی دلیل اور حضور سرور عالم ﷺ کا معجزہ ہے جب آپ ﷺ سے نجد کے لئے دعائے خیر مانگنے کا عرض کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس ملک کے لئے کیسی دعاء جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا اور وہاں فتنے اور زلزلے پیدا ہوں گے اور وہ زلزلے اور فتنے یہی ہیں کہ وہ مسائل و عقائد و معمولات جو برسوں سے متفق چلے آ رہے تھے ان پر یکسر شرک و بدعت کا فتویٰ جزدیا اور مرکز اسلام (حرمین طہین) پر قبضہ جما کر امت مسلمہ کو آزمائش اور امتحان میں ڈال دیا کہ عوام سمجھتے ہیں کہ جب مکہ و مدینہ میں ایسا ہے تو پھر یہی دین نہیں تو اور کیا ہے، حالانکہ دور نجد یہ میں ہی حرمین میں جتنا عقائد و احکام شرعیہ کے خلاف ہو رہا ہے اتنا کسی بھی دور میں نہ ہوا اور خدا کرے آئندہ نہ ہو اس کی ایک مثال یہی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا مسئلہ بھی ہے کہ یہ حضور سرور عالم ﷺ کی محبوب سنت اور **مخ العبادۃ (عبادت کا مغز)** ہے خیر القرون سے لے کر تا حال ہر اسلامی ملک اور علاقہ میں معمول ہے لیکن نجدی امام محض اپنی بددماغی سے نہ مانگیں تو اسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ نجدی امام بھی جائز تو مانتے ہیں لیکن عدیم الفرستی کے بہانہ پر مانگتے نہیں خود ان سے پوچھ لیجئے۔

فقیر کو خیال گذرا کہ چونکہ آج کل لوگ ریال کمانے اور الحمد للہ حج و عمرہ سستا ہو جانے سے عوام اہل اسلام حرمین طہین

کی آمد و رفت زیادہ رکھنے لگ گئے ہیں کہیں وہ قاری مذکور کی طرح سعودیوں کی دیکھا دیکھی اس محبوب عبادت سے محروم نہ ہو جائیں ان روایات و احادیث کو یکجا کر کے رسالہ تیار کر دوں تاکہ دوسرے مسائل کی طرح یہ بھی محفوظ ہو جائے۔

## نوٹ

یاد رہے کہ نماز کے بعد ویسے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ لیکن جو لوگ نجدیوں کے عاشق و متوالے اور ان کے ریال کے دیوانے ہیں وہ ان کے ہر غلط و صحیح عمل کو سنت اور اس کے خلاف کو بدعت کہنے کے عادی ہیں اور یہ انکار صرف قاری مذکور کا نہیں، سندھ کی تخصیص نہیں سرحد، پنجاب و دیگر ان علاقہ جات میں جہاں بھی نجدیوں کے پروانے دیوانے ہیں سب کے سب اسی بیماری کا شکار ہیں۔ فقیر کی جمع کردہ روایات یہ ہیں۔

## احادیث مبارکہ

یاد رہے کہ صحابہ کے اقوال و افعال بھی اصطلاح حدیث میں احادیث کے حکم میں ہیں بالخصوص وہ امور جن میں عقل کو دخل ہو۔

(۱) عن عكرمة عن ابن عباس قال المسئلة ان ترفع يديك حذو منكك۔ (مشکوٰۃ، صفحہ ۱۹۶)

یعنی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اس قاعدہ پر مبنی ہے کہ دعاء مانگتے وقت ہاتھ کاندھوں کے برابر اٹھانے چاہئیں۔

## فائدہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ”اشعة اللمعات“ میں یوں کیا ہے، ”گفت ابن عباس کہ ادب دُعا و سوال این است کہ برداری ہر دو دست تا برابر ہر دو دوش“۔ ”یعنی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دُعا کے آداب سے یہ ہے کہ ”دُعا مانگنے والا اپنے ہاتھوں کو دونوں موٹھوں تک اٹھائے“۔

## قاعدہ

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ایک قاعدہ اور ضابطہ اسلام کی حیثیت سے ہے کہ دعاء مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اس میں بندے کے عجز و نیاز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے گویا عرض گزار ہے کہ خالی ہاتھ پھیلا نا میرا کام ہے اسے رحمت اور فضل و کرم سے بھر دینا تیرا کام۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو دعا میں ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے تو گویا بوجہ جہالت آداب دُعا سے ناواقف ہے، وہ کیوں صرف اس لئے کہ اسے سنت

رسول ﷺ سے کیا غرض وہ تو مجنوں ہے لیلائے نجد کا۔

(۲) قال كان رسول الله ﷺ رفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه - (مشکوٰۃ، صفحہ ۱۹۶)

یعنی حضور اکرم ﷺ کا یہ معمول تھا کہ دُعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی

## فائدہ

عاشقانِ نجد ہر مسئلہ میں یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو صحیح حدیث چاہیے لو صاحب یہ صحیح حدیث حاضر ہے اور ہے بھی حضور سرور عالم ﷺ کا اپنا عمل مبارک ”لیکن جس پر نجدیت کا بھوت سوار ہو وہ کیا جانے رسول اللہ ﷺ کے عمل پاک کو“۔

(۳) عن السائب بن يزيد عن ابيه ان النبي عليه السلام كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه

(رواه البيهقي في الدعوات الكبير، تفسير مظہری صفحہ ۲۷۳، شرح مشکوٰۃ، جلد ۲۴، صفحہ ۱۹۶)

”حضرت سائب بن یزید ﷺ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جس وقت بھی دُعا مانگتے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ مبارک کو مس کرتے تھے“

## فائدہ

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ معمول تھا کہ آپ دُعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی مغفرت کے لئے بھی آپ نے دُعا مانگی، اور ہاتھ بھی اٹھائے۔ اب منکر دُعا کے لئے نفی پر کوئی دلیل لانی ہوگی، ورنہ فقط ”میں نہ مانوں“ سے کام نہیں چلے گا۔

## قاعدہ

مسائل شرعیہ کا قانون ہے کہ جو شخص کسی عمل سے روکے اسے صریح حدیث شریف پیش کرنا لازم ہے از خود روکتا ہے تو وہ اسلام کا باغی کہلاتا ہے اسی لئے ہم دعاء کے وقت ہاتھ اٹھانے یا دیگر مشہور مسائل کے مانعین کو اسلام کا باغی سمجھتے ہیں۔

(۴) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں

ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات -

(رواه مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۱۳)

یعنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم ﷺ حجرہ سے باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے چلی گئی، حتیٰ کہ آپ ﷺ جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ آپ ﷺ نے طویل قیام کیا اور آپ ﷺ نے

تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اپنی امت کے مُردوں کے لئے دُعاءِ مغفرت کرنے کا حکم دیا تھا۔

## فائدہ

مُردوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعاءِ مغفرت کرنا سرکارِ دو عالم ﷺ کے فعلِ مبارک اور صحاح ستہ کی مستند کتاب مسلم شریف سے ثابت ہو گیا۔

حضرت امام نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ فرماتے ہیں

**فيہ استحبابُ اطالة الدعاءِ وتكريره ورفع يدين فيه -**

”حضورِ اکرم ﷺ کے اس فعل سے دُعا کا لمبا مانگنا اور مکرر مانگنا اور دُعا میں ہاتھوں کے اٹھانے کا مستحب ہونا ثابت ہو گیا“

## فائدہ

اس حدیث مبارک سے ثابت ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مُردوں کی دُعاءِ مغفرت کے لئے تین دفعہ ہاتھ اٹھائے تو ان بیچارے منکرین کا کیا حشر ہوگا جو حضورِ اکرم ﷺ کے فعلِ مبارک کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کو بھی بدعت و گمراہی کہتے ہیں، تو ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے فعلِ مبارک کو بدعت کہنا معمولی جرم نہیں بلکہ اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے لیکن ان باغیوں سے پوچھئے کون ہیں جو اہل اسلام کو قدم قدم پر شرک و بدعت کے فتوؤں سے پریشان کر رہے ہیں۔ دنیا میں بچ کر نکلے تو ان شاء اللہ کل قیامت میں ان باغیوں کو دیکھنا کہ ان کا حشر شدا دو ہامان کے ساتھ ہوگا۔

## فائدہ

اس حدیث مبارک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ لوگ مُردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تبھی تو حضور ﷺ نے دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی کہ اہل اموات کو فائدہ پہنچانے کو مت بھولو۔

(۵) صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عامر (رضی اللہ عنہ) ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ ابو عامر

جنگ میں شہید ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ ﷺ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو حضرت عبید ابن عامر ﷺ کی وفات کی خبر دے کر ان کا

پیغام دیا

**فدعا رسول اللہ بماء فتوضاء منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر بعبيد ابى عامر حتى رايت بياض**

یعنی، حضور اکرم ﷺ نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دُعا کی ”اے اللہ! اپنے بندے ابی عامر کی مغفرت فرما۔“ راوی بیان کرتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی۔

## فائدہ

بفضلہ تعالیٰ مستند احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے نئے فوت شدہ مُردے کے لئے بطور فاتحہ خوانی ہاتھ اٹھا کر دُعا کے مغفرت فرمائی۔

اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا کے مغفرت کرنا بدعت ہے، تو وہ فعلِ رسول اللہ ﷺ کو ناجائز کہہ کر خود کو دائرۃ اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے بھی کسی شخص کا یہ کہنا کہ میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا حضور نبی کریم ﷺ کے فعل سے ثابت نہیں، محض دعویٰ باطل ہے اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، بلکہ ایسا کہنا حضور اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس پر بہتان باندھنا ہے۔

## فائدہ

جو لوگ علومِ اسلامیہ سے واقف نہیں ہیں وہ خلافِ حقیقت بات کہہ کر ذرہ بھر جھجک بھی محسوس نہیں کرتے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیاتِ ظاہری سے لے کر آج تک اُمتِ مسلمہ میں سے سوادِ اعظم (کثیر جماعت) کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا کے مغفرت کرتے ہیں اور فقط چند آدمی ہیں جو کہ ہاتھ اٹھا کر دُعا کے مغفرت کرنے کو بدعت و ناجائز کہتے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ ان چند آدمیوں کے آباؤ اجداد بھی کل تک ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگتے رہے ہیں، تو مسلمانوں کی اکثریت کے مقابلہ میں اور دلائلِ قاہرہ کی موجودگی میں چند تخریب پسند عناصر کو سچا کیسے کہا جاسکتا ہے؟

## دلائل

جملہ مسائلِ اسلامیہ کے اصول و سرچشمہ ہیں: (۱) قرآن پاک (۲) حدیث شریف (۳) اجماع امت (۴) قیاس۔ عموماً اور خصوصاً میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا کے مغفرت کرنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ مذکورہ بالا مستند احادیث سے واضح ہے اور اجماع امت کے ساتھ بھی ثابت ہے کہ چودہ سو سال سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا کے مغفرت مانگتے آئے ہیں۔

## احادیث مبارکہ

(۱) حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: **لا تجتمع امتی علی الضلالة**۔

**ترجمہ** ﴿میری امت گمراہی پر اکٹھی نہ ہوگی﴾۔

مزید ارشاد فرمایا: (۲) **اتبعوا سواد الاعظم من شد شد فی النار**۔

**ترجمہ** ﴿بڑی جماعت کی پیروی کرو جو بڑی جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں گیا﴾۔

بڑی جماعت سے مراد مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے بڑا گروہ ہے۔

## فائدہ

فاتحہ خوانی کے موقع پر جب کثیر مجمع میں تقریباً سب لوگ ہاتھ اٹھا کر میت کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں اور صرف دو یا تین آدمی دُعا نہیں مانگ رہے ہوتے، تو وہ اپنے تئیں تو بڑے دیندار بن رہے ہوتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے طریقے کی خلاف ورزی کر کے **”من شد شد فی النار“** کی وعید کا مصداق بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر لطف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آکر مسلمانوں کے اس اجتماع کثیر کو دیکھے گا کہ جس میں سوائے چند آدمیوں کے سبھی دُعاے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ چند لوگ (دُعا نہ مانگنے والے) کوئی غیر مسلم (ہندو یا عیسائی، یہودی) ہیں کیونکہ غیر مسلم اپنے مُردوں کے لئے دُعاے مغفرت نہیں کرتے۔

## ایک غلط طریقہ

ہندوؤں کی عادت ہے کہ جب کوئی مسلمان مرجاتا تو وہ اس کے گھر جا کر دُعاے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے **”بھگوان کی مرضی“** آج یہی طریقہ بعض نام نہاد مسلمان اپنارہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو لوگ دُعاے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے **”بھگوان کی مرضی“** اور یہ لوگ دُعاے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ **”اللہ کی مرضی“**

## مشابہت رکاوٹ

مسلمان سرکارِ دو عالم ﷺ اور مسلمانوں کا طریقہ اپنانے کی بجائے ہندوؤں کا طریقہ اپنارہے ہیں اور اُدھر حضور اکرم ﷺ کی یہ حدیث پاک تو ہر ایک شخص نے سُنی ہوگی: **من تشبه بقوم فهو منهم**۔

یعنی، **”جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، پس وہ اسی قوم کے حکم میں ہو جاتا ہے“**

جو شخص سرکارِ دو عالم شفیعِ معظم ﷺ اور مسلمانوں کے طریقہ کے خلاف کرے، اُس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔

**ترجمہ** ﴿ اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اُسے اُسکے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

(پارہ ۵، سورۃ النساء، آیت ۱۱۵)

کسی مجمع میں اگر چند آدمی جماعت کثیرہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگیں، تو وہ یقیناً بتبع غیر سبیل المؤمنین کا مصداق بن رہے ہیں، انہیں آخرت کا خوف کرتے ہوئے ایسے فعلِ شنیع سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن توبہ تو ان کی قسمت میں لکھی نہیں بلکہ اُلٹا مسلمانوں سے تمسخر (ٹھٹھا مذاق) کر کے اپنا نام جہنمیوں میں لکھوار ہے ہیں۔

**قرآن مجید** اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝

**ترجمہ** ﴿ بیشک وہ جو میری عبادت سے اونچے اونچے کھنچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔

(پارہ ۲۴، سورۃ مؤمن، آیت ۶۰)

## فائدہ

جو لوگ دُعا سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لئے جہنم کی وعید ہے۔ اور ایسے لوگ جو نہ خود دُعا مانگتے ہیں اور نہ دوسروں کو مانگنے دیتے ہیں، تو پھر ان کے لئے تو بطریقِ اولیٰ وعید جہنم ہوگی۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت و دُعا سے روکنے والوں کے متعلق غضب ناک ہو کر فرمایا

اَرَأَيْتَ الَّذِيْ يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا اِذَا صَلَّىٰ ۔

**ترجمہ** ﴿ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے۔ بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ (پارہ ۳۰، سورۃ العلق، آیت ۱۰، ۹)

## فائدہ

اہل فہم بتائیں کہ آیت کریمہ کن لوگوں کو ملامت کر رہی ہے انہی لوگوں کو جو ہمارے مد مقابل ہیں اور فرمایا



قَالَ احْسِنُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝

**ترجمہ** ﴿ رب فرمائے گا دیکھو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے۔

(پارہ ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت ۱۰۸ تا ۱۱۰)

## فائدہ

جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے والوں کا مذاق کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دُعا مانگتے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف طنزاً اشارے کرتے ہیں، تو وہ اس آیت پر غور کریں کہ ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے پر مغفرت کرنے والوں کا مذاق اڑا کر کیا وہ مذکورہ بالا آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے؟

## احادیث مبارکہ

(۱) عن ابو ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من لم یسئل اللہ یغضب علیہ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ ۱۹۵)

یعنی، ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو خدا تعالیٰ سے دُعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آتا ہے۔“

## فائدہ

جو شخص اللہ تعالیٰ سے دُعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آتا ہے، تو جو شخص نہ خود دُعا مانگے اور نہ ہی دوسروں کو مانگنے دے، تو اس پر خدا تعالیٰ کے غضب کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۝

**ترجمہ** ﴿ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ (پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، آیت ۱۸۶)

## فائدہ:

اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کا جھوٹ واضح ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دُعا مانگنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ

کے اس فرمانِ عالیہ کے سراسر خلاف ہے۔ **اذا دعان** عموم پر دال ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ جنازہ کے بعد دُعا نہ مانگو، تو اس کو تخصیص ثابت کرنا ہوگی۔

دوسری جگہ فرمایا **وقال ربکم ادعونی استجب لکم**۔

**ترجمہ** ﴿ ”اور تمہارے رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دُعا کرو میں قبول کروں گا“

(۲) **قال رسول اللہ ﷺ ان ربکم حیّ کریم یتستحب من عبده اذا رفع یدیه ان یرد ہماء صغراء**۔

یعنی، ”حضرت سلمان فارسی ؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تحقیق تمہارا رب تعالیٰ بہت ہی حیا والا اور سخی ہے اور اسے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے“

## فائدہ

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے والوں کی دُعا کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اور ان کی دُعا کو شرفِ قبولیت بخشتا ہے۔ تو جو لوگ میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے سے منع کرتے ہیں شاید ان کو اپنے مُردے کے بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو اپنے مُردے کے ساتھ دشمنی ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگیں تو کہیں انہیں خدا تعالیٰ معاف ہی نہ کر دے۔ اب دُعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق ترغیب تو مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اجابتِ دُعا کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ تو اب منکرین کو ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے میں نقصان کون سا ہے؟ بغیر اس کے کہ ان کی حالت سے تکبر اور ذاتِ باری تعالیٰ سے بے پروائی ظاہر ہوتی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے ناراضگی خدا کا نشانہ بنتے ہیں۔

**قال قال رسول اللہ ﷺ اذا سألتمو اللہ فاسئلوه ببطون اکفکم ولا تساء لوه بظہورہا فاذا فرغتم**

**فامسحوا وجوهکم**۔ (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ، صفحہ ۱۹۵)

**ترجمہ** ﴿ ”حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو اور ہاتھوں

کی پشت کے ساتھ نہ مانگو اور جب دُعا سے فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر پھیرو“

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان عام ہے، یعنی جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو چاہے کسی زندہ کے لئے مانگو، چاہے کسی مُردہ کے لئے مانگو، تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو۔ یہاں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جب اپنے لئے دُعا مانگو یا اپنے کسی زندہ کے لئے مانگو تو ہاتھ اٹھا کر مانگو۔ لیکن جب کسی مُردے کے لئے دُعا مانگنے لگو تو ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ عام اپنے عموم پر ہے، اب

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمانِ مُردہ کے لئے دعائے مغفرت کے ماسوا کے لئے ہے، تو پھر یہ عام مخصوص البعض ہوگا اور اسے دکھانا ہوگا کہ مخصص کون ہے؟ اور مخصص کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ اور کیا اس میں یہ شرائط پائی گئی ہیں؟ اب حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان کو پڑھ لینے کے بعد کوئی احمق ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنا بدعت ہے۔

مُردے کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنا ایسا فعل ہے کہ جس پر امتِ مسلمہ کے تمام گروہوں کا اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ علمائے دیوبند بھی مردہ کے لئے آج تک ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگتے چلے آئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص میت کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے کو بدعت کہے تو سنتِ رسول ﷺ کو بدعت کہنے کے ماسوائے اس کو اپنے آباؤ اجداد، استاد، پیرو مرشد اور ان کے تمام پیروکاروں کو بدعتی کہنا پڑے گا اور ایسا کہنے والا شخص وہی ہے جو کہتا ہے ”ہر بدعت گمراہی ہے“ تو پھر اس کو اپنے پیروں، استادوں اور اپنے باپ، دادا کو اپنے خیال کے مطابق ایسی گمراہی کے ارتکاب کی وجہ سے گمراہ اور ضال کہنا پڑے گا، لہذا ایسے کہنے والے شخص کو اپنے آباؤ اجداد، اُستاد، پیرو مرشد اور تمام مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے قول اور فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جان چھڑانے کے لئے اپنے جاہل مقتدیوں کی آنکھوں میں دُھول جھونکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اسی لئے قابلِ عمل نہیں۔

(۳) حدیث میں ہے **رفع یدیه ثم قال اللهم اغفر لعبيد ابی عامر۔** (مسلم شریف، جلد دوم، صفحہ ۳۰۳)

یعنی، ”حضرت عبید ابی عامر (رضی اللہ عنہ) کے لئے ان کی وفات کی خبر سن کر (حضور ﷺ نے) ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگی تھی“

## انتباہ

اس پُر فتن دور میں بعض نام نہاد توحید پرست شریک پرست لوگ دُعا مانگنے سے سختی سے منع کر رہے ہیں اور اپنی تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص فوت شدہ شخص کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگے گا، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے میت کے لئے دُعا مانگنا ایک گناہِ کبیرہ ہے، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ اس شخص کے خلاف لگایا جاتا ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں تو ایسے لوگوں کا ایمان ہی متزلزل نظر آتا ہے۔ خدائے کریم سے دُعا مانگنے والوں کو نہ صرف دُعا سے روکنا، بلکہ ان پر فتویٰ لگانا یہ کسی عقل و خرد سے عاری شخص ہی کا کام ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جب مسلمانوں کو میت کے لئے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو یہاں پر انسانی ذہن ایک خاص بات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگنا تو ہر وقت جائز ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دُعا مانگنے والوں پر ہر

وقت رحمت و شفقت فرماتا ہے، لیکن صرف ایک ہی صورت ایسی رہ گئی ہے کہ شاید وہ مردہ ایسا ہے کہ جس کے لئے دُعا مانگنا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لئے دعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے:

(۱) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ۝

**ترجمہ** ﴿نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں۔﴾ (پارہ ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۱۱۳)

اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

(۲) وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۝ (القرآن)

**ترجمہ** ﴿اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اسکی قبر پر کھڑے ہونا۔﴾

(پارہ ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت ۸۴)

## آخری گزارش

ہمارے ان دلائل سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے خواہ وہ نماز فرض عین ہو یا فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ یا نماز نوافل یا ویسے ہی۔ کوئی نجدیوں کی تقلید میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا تو وہ جانے اور ان کا خدا، بلکہ ایسے لوگوں کو نجدیوں کی ہر ادا محبوب ہے تو نماز کے بعد سرے سے دعا بھی نہ مانگیں کیونکہ جو لوگ حرمین شریفین سے ہو آتے ہیں ان سے تصدیق کر لیں کہ نجدی امام نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ ہم نے مختصر چند دلائل عرض کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم و علی آلہ واصحابہ اجمعین

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ